

برائے فوری اجراء

## میٹروولنکس بُراونٹاریو لائیٹ ریل ٹرانزٹ کے پہلے مرحلے کے اعلان پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان

برامپٹن، آن (21 مارچ 2019) - آج میٹروولنکس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے بعد، سٹی آف برامپٹن بُراونٹاریو لائیٹ ریل ٹرانزٹ (LRT) پروجیکٹ میں پیش رفت ہونے پر پُرجوش محسوس کر رہا ہے۔ اس میں بُراونٹاریو اسٹریٹ کی عوامی امنگوں پر پورا اترنے والے ایک پرکشش کوریڈور کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو مختلف کمیونٹیز کو باہم مربوط کرے گا اور اگلے 30 سال تک متوقع بڑھوتری کے لیے گنجائش فراہم کرے گا۔

سٹی سمجھتا ہے کہ میٹروولنکس کی جانب سے اعلان کردہ تبدیلیاں اس پروجیکٹ کو بطور مجموعی بروقت اور مؤثر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری تھیں۔ سٹی کو یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ترمیم شدہ معاہدہ میں ایسے نقاط موجود ہیں جو مستقبل کی تبدیلیوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، بشمول برامپٹن میں ممکنہ طور پر توسیع کی گنجائش۔

ان تبدیلیوں کے باوجود مستقبل میں LRT میں اسٹیلز ایونیو تا برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع کی گنجائش موجود ہو گی جس کا فیصلہ مزید مطالعہ اور منظوریوں کے بعد کیا جائے گا۔

بُراونٹاریو LRT میں پورٹ کریڈٹ گو تا برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل تک کام کے حوالے سے، سٹی آف برامپٹن میٹروولنکس اور سٹی آف مسی ساگا کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہے۔ بُراونٹاریو LRT پروجیکٹ مقامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل ہو گا اور رہائشیوں اور گریٹر ٹورانٹو و ہیملٹن کے علاقہ جات کے کاروباری اداروں کو تیز، قابل بھروسہ، آسان اور نقل و حمل کی باہم مربوط سہولیات فراہم کرے گا۔

### اقتباس

"ہمارے رہائشیوں کی امنگوں کے عین مطابق نقل و حمل کی مؤثر سہولیات کی فراہمی ہماری کلیدی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس پروجیکٹ کے شروع ہونے پر ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ معاہدہ کے ترمیم شدہ نقاط کو دیکھ کر ہمیں خصوصی خوشی محسوس ہو رہی ہے، جن کے مطابق برامپٹن میں ممکنہ توسیع کی گنجائش موجود ہے اور اس کی بناء پر ہم فیز 2 کے لیے تمام امکانات پر غور و فکر کرنا جاری رکھیں گے، بشمول ایک سرنگ بنانے کا آپشن جو برامپٹن گو تک جائے گی۔"

- میئر پیٹرک براؤن

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم نیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرہن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)